

**Q.7 Translate the following into English by keeping in view figurative / idiomatic expression.**

اپنے پوشیدہ عیبوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اول ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں لگتے یا پھر ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یا پھر ان سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہمارا دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو دشمنی سے چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو دشمن دوست سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔

~~our flaws~~  
Our enemies' perspective is important <sup>about us</sup> for highlighting our flaws. Mostly, our friends advise us to keep us calm. They <sup>do not</sup> see our flaws as flaws. May be they are so close to us that they don't want to upset us, so they hide our ~~fla~~ mistakes. In <sup>contrast</sup> opposite, our enemies find our flaws and make even smaller ones a bigger in amity. A friend ~~always~~ augments his friend's good side while an enemy highlights his flaws. <sup>That is</sup> why we should be grateful to our enemies as they let us know <sup>from</sup> about our faults. In this perspective, <sup>an</sup> enemy <sup>appears</sup> to be <sup>more</sup> beneficial than friend.